

سندھ آرڈیننس نمبر LVIII مجریہ 1984  
**SINDH ORDINANCE NO. LVIII OF 1984**  
سندھ ایگریکلچرل یوینورسٹی (ترمیم) آرڈیننس، 1984  
**THE SIND AGRICULTURE**  
**UNIVERSITY (AMENDMENT)**  
**ORDINANCE, 1984**  
**فہرست (CONTENTS)**

تمہید (Preamble)

1. مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

2. سندھ ایکٹ V مجریہ 1977 کی دفعہ 36 کی ترمیم

Amendment of Section 36 of Sind Act of 1977

3. سندھ ایکٹ V مجریہ 1977 کی دفعہ 45 کی ترمیم

Amendment of Section 45 of Sind Act of 1977

سندھ آرڈیننس نمبر LVIII مجریہ 1984  
**SINDH ORDINANCE NO.**  
**LVIII OF 1984**  
سندھ ایگریکلچرل یوینورسٹی (ترمیم)  
آرڈیننس، 1984  
**THE SIND AGRICULTURE**

# UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1984

[12 دسمبر 1984]

تمہید (Preamble)

آرڈیننس جس سے سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی، ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔

جیسا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی ایکٹ، 1977 میں کچھ ترامیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

لہذا اس ایکٹ کے ذریعے سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کرنا مقصود ہے۔

جس کو مندرجہ ذیل طریقے سے تبدیل کیا جائے گا۔

مختصر عنوان اور  
شروعات

Short title and  
commencement

لہذا اس لئے 5 جولائی 1977 کے اعلان اور عبوری آئین 1981 کے حکم کی تعمیل میں گورنر سندھ بخوشی اس آرڈیننس کو نافذ فرماتا ہے۔

1. (1) اس آرڈیننس کو سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی

(ترمیم) آرڈیننس، 1984 کہا جائے گا۔

(2) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

سندھ ایکٹ V  
مجریہ 1977 کی  
دفعہ 36 کی ترمیم

Amendment of  
Section 36 of  
Sind Act of  
1977

2. سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی ایکٹ 1977، کو جس کو بعد میں بھی سندھ ایکٹ ہی کہا جائے گا، اس کے دفعہ 36 کی ذیلی دفعہ (2) میں آنے والے فل اسٹاپ کی جگہ کولن لکھا جائے گا اور اسکے بعد مندرجہ ذیل شرطیہ بیان کو شامل کیا جائے گا۔

نظر ثانی یا اپیل کا کوئی حکم تب تک نہیں دیا جائے گا جب تک درخواست گزار کو سننے کا موقعہ نہ ملے۔

سندھ ایکٹ V  
مجریہ 1977 کی  
دفعہ 45 کی ترمیم

Amendment of  
Section 45 of  
Sind Act of  
1977

3. اس ایکٹ کی دفعہ 45 میں ”الفاظ کیا گیا“ اور ”تحت“ کے درمیان الفاظ ”اچھی نیت سے“ کا اضافہ کیا جائے گا۔

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔